

برائے فوری اجراء

برامپٹن تبدیلی لانے کے لیے اور سٹی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے منصفانہ وفاقی اور صوبائی فنڈنگ کی وکالت کر رہا ہے

برامپٹن، آن (11 مارچ 2021) – بروز جمعہ، 12 مارچ کو برامپٹن کے میئر پیٹرک براؤن تبدیلی لانے اور سٹی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے کلیدی ترجیحات کے متعلق وکالت کے لیے برامپٹن کے MPs اور MPPs سے ورچوئل طور پر ملاقات کریں گے۔

کووڈ-19 کی عالمی وباء نے برامپٹن کی کلیدی ترجیحات کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے، مثلاً نگہداشت صحت، ٹرانزٹ اور معاشی بحالی۔ وفاقی اور صوبائی قبل از بجٹ مشاورتوں کے ذریعے، سٹی آف برامپٹن قریبی شراکت داریوں اور تعاون کی کوشش کرتے ہوئے، سٹی کی فوری اور طویل مدتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بروقت اور منصفانہ فنڈنگ کے لیے وکالت کر رہا ہے۔

سٹی آف برامپٹن نے حالیہ طور پر ہی سیف ری سٹارٹ اگریمنٹ کی 2021 کے اختتام تک توسیع کی درخواست کی ہے اور میونسپل ٹرانزٹ سسٹمز کی مدد کے لیے \$150 ملین کی اضافی فنڈنگ کے حالیہ اعلان کو سراہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں میونسپلٹیوں کو 31 دسمبر 2021 تک \$650 ملین دستیاب ہوں گے، جبکہ توسیعات دسمبر 2022 تک دستیاب ہوں گی، جو ہر کیس کی بنیاد پر فراہم کی جائیں گی۔

2020 میں حاصل ہونے والی وفاقی فنڈنگ سے آگے بڑھتے ہوئے، سٹی آف برامپٹن نوکریاں پیدا کرنے اور گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی لانے کے لیے حکمت عملی سے متعلق ماحول دوست انفراسٹرکچر والے ٹرانزٹ پراجیکٹس، مثلاً ٹرانزٹ کی دیکھ بھال اور ذخیرے کی ایک نئی سہولت گاہ، اسے بجلی پر منتقل کیا جانا اور بلا اخراج فلیٹ، میں سرمایہ کاری کی درخواست کر رہا ہے۔

باقی کے اونٹاریو کی نسبت برامپٹن کی نگہداشت صحت میں موجود خلاء کو پر کرنے کے لیے فوری صوبائی فنڈنگ کئی طبی خدمات کے لیے انتہائی اہم ہے: بیماریوں سے بچاؤ اور صحت کا فروغ؛ کمیونٹی اور عوامی صحت کے پروگرام؛ گھر میں نگہداشت؛ اور برامپٹن سوک ہاسپٹل اور پیل میموریل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس میں ہسپتالوں کی خدمات۔

700,000 سے زائد رہائشیوں کے ساتھ، برامپٹن کینیڈا کو نواں بڑا شہر ہے، جو ایک متنوع اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا حامل ہے۔ ٹیکنالوجی اور جدت پر مبنی صنعتوں میں گنجائش پوری کرنے کے لیے نوکریاں بڑھانے کے لیے مہارتوں میں اضافہ سٹی آف برامپٹن کے لیے ایک کلیدی ترجیح ہے۔

بجٹ سے پہلے جمع کروائی جانے والی چیزوں میں شامل ہیں:

- برامپٹن میں "برآمدوں میں علاج" کو ختم کرنے کے لیے نگہداشت صحت کے لیے فوری اور منصفانہ صوبائی فنڈنگ
- ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی تمام تر توانائیوں کو استعمال میں لانے اور قابل استحکام بڑھوتری اور ترقی کو ممکن بنانے کے لیے رور واک کے لیے صوبائی فنڈنگ
- الیکٹرک ٹرانزٹ وپیکلز کے لیے ٹرانزٹ کی دیکھ بھال اور ذخیرے کی ایک تیسری سہولت گاہ کے لیے صوبائی فنڈنگ
- کوئین اسٹریٹ BRT پراجیکٹ میں سرمایہ کاری کر کے ایک بین علاقہ جاتی، اعلیٰ درجے کے ٹرانزٹ نیٹ ورک کے لیے معاونت
- انوائرنمنٹل اسیسمنٹ سنڈی کے مکمل کیے جانے کے دوران پراونٹاریو مین اسٹریٹ LRT توسیع میں سرمایہ کاری
- گو ٹرانزٹ ریل کی توسیع میں تیزی اور میٹروپولیٹن کے ساتھ ایک پورا دن چلنے والی، دو طرفہ سروس کے لیے فنڈنگ
- برامپٹن یونیورسٹی ایکٹ منظور کر کے برامپٹن یو قائم کرنے کے لیے صوبائی قانون سازی اور بعد از ثانوی تعلیم اور جدت اور ٹیکنالوجی کے اہم انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاریاں

بجٹ سے پہلے جمع کروائی جانے والی چیزوں کو پڑھنے کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

اقتباسات

"ہمارے حکومتی شراکت داروں کے ساتھ زیادہ شراکت داری ہماری مجموعی بحالی میں مدد فراہم کرے گی۔ کووڈ-19 کی عالمی وباء نے باقی کے اونٹاریو کے مقابلے میں برامپٹن کی ہیلتھ کیئر میں موجود خلاء کو پر کرنے کے لیے بروقت اور منصفانہ فنڈنگ کی انتہائی

ضرورت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صوبے کو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے شدید نگہداشت کے ایک نئے ہسپتال اور ایک میڈیکل اسکول کی وکالت کریں گے۔

ہماری کمیونٹی کی صحت و بہبود کے لیے اس بات کو یقینی بنانا بھی انتہائی اہم ہے کہ ہمارے پاس قابل رسائی اور قابل استحکام عوامی ذرائع نقل و حمل ہوں۔ ہم یہ بات اپنی وفاقی شراکت داروں کے سامنے لائیں گے، جب ہم اس چیز کو نمایاں کریں گے کہ برامپٹن میں الیکٹرک ٹرانزٹ ویکلز کے لیے ٹرانزٹ کی دیکھ بھال اور ذخیرے کی سہولت گاہ کو بجلی پر منتقل کرنے میں ان کی معاونت کتنی اہم ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ملک کی نوجوان ترین اور متنوع ترین آبادیوں میں سے ایک کا حامل ہے۔ انوویشن کوریڈور پر مرکزی مقام، جسے GTHA کے ٹیلنٹ پول اور مارکیٹوں تک فوری رسائی حاصل ہے، کے ساتھ ترقیاتی کاموں کے لیے موزوں جگہوں کی دستیابی شہر کو کاروباروں اور سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بناتی ہے۔ سٹی آف برامپٹن ہمارے شہر، اونٹاریو اور کینیڈا کے لیے اس نئی دہائی کا تصور نو کرنے کے لیے اپنے وفاقی اور صوبائی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل شراکت داری کے لیے پر امید ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

گروندر سنگھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز

سٹی آف برامپٹن

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca